



سوال

کیا دو برس بعد منگنی توڑنی جائز ہے، کیونکہ استعارہ کے بعد منگیتر نے بری سی خواب دیکھی ہے؟

جواب

الحمد للہ

مسلمان شخص کو اپنے معاملات کو سمجھنے کے لیے اس کی حقیقت اور تجربات کے ساتھ عقل و دانش اور حکمت کے ساتھ حل کرنا چاہیے، اور اس میں اسے وہ اسباب استعمال کرے جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے غور فکر کرنے اور عقل و دانش تجربہ کے استعمال کرنے کے بعد اشخاص یا اعمال پر حکم لگانا مقرر کیا ہے

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو البقرہ (242).

ہماری شریعت میں خواب اور سپنوں پر اعتماد کرنا بالکل نہیں ہے، نہ تو دنیاوی معاملات میں اور نہ ہی دینی احکامات میں، کیونکہ خواب کے ذریعہ حاصل ہونے والی معرفت نہ تو یقینی ہوتی ہے اور نہ ہی منضبط

بلکہ اس میں شک و شبہ پایا جاتا ہے، اور شریعت کے لیے ممکن نہیں کہ وہ لوگوں کو ایسی چیز کی طرف رجوع کرنے کا کہا جو واہمہ ہوں اور ادنیٰ سے بھی علم سے ثابت نہ ہوتے ہوں البوہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"خواب تین قسم کے ہیں: نیک خواب اللہ کی جانب سے خوشخبری ہیں، اور غم والے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، اور وہ خواب جو انسان اپنے آپ سے بات کرتا ہے" صحیح مسلم حدیث نمبر (2263).

چنانچہ انسان جو کچھ بھی خواب میں دیکھتا ہے جس طرح نفس کا اس میں حصہ ہوتا ہے اسی طرح شیطان کا اس میں حصہ ہوتا ہے، ہر وقت اس میں امتیاز واضح نہیں ہو سکتا، اس لیے مسلمان شخص خواب میں دیکھی گئی چیز پر مطمئن کس طرح ہوتا اور پھر اس کو بنیاد بنا کر کس طرح اختیار کر سکتا ہے، حالانکہ اسے علم بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں شیطان کا حصہ زیادہ ہو اور ہو؟!

اس میں شادی کا معاملہ بھی شامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ہمارے لیے وہ صفات مقرر کر دی ہیں جس کی بنا پر رشتہ قبول یا رد کیا جاسکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین میں فساد پنا ہو جائیگا

صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں کچھ ہو



تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس کا نکاح کر دو، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمائی "

سنن ترمذی حدیث نمبر (1085) امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن غریب کہا اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں حسن قرار دیا ہے

چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لوگوں کے لیے رشتہ قبول یا رد کرنے کا معیار اخلاق اور دین قرار دیا ہے، اس لیے سوال کرنے والی عزیز بہن کو چاہیے کہ وہ ان صفات کی طرف ہی الفتات کرے، اور خواب میں دیکھے گئے معاملہ کی طرف دھیان مت دے، اور اسے تسلیم مت کرے کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں شیطان کا حصہ ہو جس سے وہ خاوند و بیوی کے مابین اختلاف و افتراق پیدا کر کے علیحدگی کرانا چاہتا ہو

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے "لقاء الباب المفتوح" میں درج ذیل سوال دریافت کیا گیا:

ایک شخص نے کسی عورت کا رشتہ طلب کیا تو اس عورت نے اس شخص کو خواب میں دیکھا کہ اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، کیا وہ اس رشتہ کو قبول کر لے یا رد کر دے، حقیقت میں تو اس شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اس کا ظاہر بھی بچھا ہے، اور دین کا التزام کرنے والا ہے، اللہ پر ہم کسی کا بھی تزکیہ نہیں کرتے

شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا:

"جس عورت نے اپنے منگیتر کو خواب میں داڑھی منڈی ہوئی شکل میں دیکھا ہے اور حقیقت میں اس شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا اس سے اس عورت کو کوئی نقصان اور ضرر نہیں، جب وہ شخص بااخلاق اور دین والا ہے تو اس سے شادی کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے" انتہی

دیکھیں: لقاء الباب المفتوح نمبر (5) سوال نمبر (17).

پھر اس پر تنبیہ ضروری ہے کہ استعارہ کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جیسا کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ استعارہ کے بعد سونا چاہیے اور خواب میں نظر آتا ہے کیونکہ استعارہ کا مقصد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دونوں معاملوں میں سے بہتر اور خیر والے امر کا سوال کرنا ہے، اور بہتر امر طلب کرنا مقصود ہوتا ہے

کیونکہ استعارہ تو ایک دعا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ استعارہ کرنے والے کے لیے غور و فکر اور تامل کے بعد جسے اللہ اختیار کرے اسے آسان کر دیتا ہے، اور اس دعا کا قریب یا دور سے بھی خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے

اس لیے سوال کرنے والی عزیز بہن کو نصیحت ہے کہ وہ اپنے معاملہ میں رجوع کرے، اور صرف خواب کی بنا پر اپنے ازدواجی روابط خراب مت کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے منگیتر کے معاملہ میں دین و عقل کو استعمال کرتے ہوئے کوئی مناسب موقف اختیار کرے

واللہ اعلم.

اسلام سوال و جواب

93399